

برائے فوری اجراء

## سٹی اپنی وکالت، حکومتی شراکت داریوں اور اضافی مالی وسائل کے ذریعے برامپٹن کے لیے ایک مستحکم مستقبل کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہے

برامپٹن، آن (9 جولائی 2020) - تمام حکومتی سطحوں پر کام کرتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن ترقی اور پائیداری کے ایسے اقدامات کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے جن سے اس کے رہائشیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اور مقامی طور پر مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہوں۔ نگہداشت صحت، بعد از ثانوی تعلیم، عوامی نقل و حمل اور معاشی بحالی کے مواقع پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سٹی نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے خاطر خواہ مقدار میں گرانٹ اور تعاون حاصل کیا ہے اور برامپٹن کے محفوظ مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے آمدنی کے اضافی ذرائع بھی پیدا کیے ہیں۔

### وفاقی اور صوبائی سطح کی گرانٹ کی مدد میں موصول ہونے والی امدادی رقم

2019 سے لے کر اب تک وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سٹی کے لیے مجموعی طور پر \$667,195,952 کی خطیر فنڈنگ اور امدادی رقم کا اعلان کیا گیا ہے جو 2011 کے بعد سابقہ کونسلوں کی مدت کے لحاظ سے 232 فیصد زیادہ ہے۔ اس میں سے تقریباً 137.8 ملین کی رقم کووڈ-19 کی عالمی وباء سے نمٹنے کے لیے ری سٹارٹ اینڈ ریکوری پروگرام کی مد میں دی گئی ہے۔ 2019 سے اب تک کووڈ-19 پر خرچ ہونے والی رقم کے علاوہ سٹی کے لیے گرانٹ فنڈنگ کی رقم مجموعی طور پر \$529,314,465 بنتی ہے۔

سٹی نے کینیڈا اور اونٹاریو کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے 2019 کے بعد سے اب تک درج ذیل انتہائی اہم پروجیکٹس کی کامیاب وکالت کرتے ہوئے گرانٹس اور امداد کے حصول میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں:

- **رور واک** – نومبر 2020 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سٹی کو **ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ بنانے کے لیے \$38 ملین** موصول ہوں گے، جس سے سٹی اپنے رور واک پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں ایک قدم مزید آگے بڑھ جائے گا۔ سٹی کی جانب سے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فلڈ پروجیکشن پروجیکٹ کے لیے پیش کی جانے والی درخواست کو حکومت کینیڈا نے ڈیز ایسٹر مٹیکیشن اینڈ ایڈاپٹیشن فنڈ کی شرائط و ضوابط کے تحت منصوبے کے کامیاب جائزے کے بعد منظوری دی گئی تھی۔
- **پیل میموریل کا فیز 2** – مارچ 2021 میں صوبائی حکومت نے اپنے بجٹ کے حصے کے طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ **ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میموریل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کی ایک نئے ہسپتال میں توسیع** کے لیے فنڈ جاری کریں گے اور ریٹرنس یونیورسٹی کے اشتراک سے برامپٹن میں میڈیکل ایجوکیشن کے ایک نئے ادارے کے فروغ کے لیے درکار مالی معاونت بھی فراہم کریں گے۔
- **بعد از ثانوی** – مارچ 2021 میں سٹی نے صوبے کی جانب سے برامپٹن میں بعد از ثانوی اسکول مواقع میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا، جس میں ریٹرنس یونیورسٹی کی جانب سے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی شامل ہے۔ 7 جولائی کو منعقد ہونے والی کونسل کی میٹنگ میں برامپٹن میں مستقبل کے سکول آف میڈیسن کے قیام کے لیے پلاننگ گرانٹ کی مد میں \$1 ملین کی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ 16 جون 2021 کو سٹی اور یونیورسٹی آف گوئلف ہمبر نے اس تعلیمی ادارے کے سینٹر فار انویشن میں کرایہ دار کی حیثیت سے برامپٹن میں منتقل ہونے کے ارادے کی تصدیق کی۔
- **برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری سہولت گاہ** – اپریل 2021 میں برامپٹن نے **برامپٹن ٹرانزٹ کی تیسری سہولت گاہ کے قیام کے لیے \$128 ملین کی سرمایہ کاری کے حصول میں کامیابی حاصل کی**۔ اس نئی سہولت گاہ کی تعمیر سے برامپٹن میں پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کی صلاحیت، معیار اور حفاظت میں بہتری آئے گی اور مستقبل میں الیکٹرک بسوں کی سروس چلانے کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کی راہ بھی ہموار ہو گی اور اس کے علاوہ رہائشیوں کے لیے نقل و حمل کے صاف ستھرے اور زیادہ مؤثر ذرائع بھی پیدا ہوں گے

• سنگ میل الیکٹریک بس پائلٹ پراجیکٹ – جولائی 2019 میں سٹی نے [برامپٹن میں تاریخی بین کینیڈین الیکٹریک بس ڈیمانسٹریشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل میں حکومت کینیڈا کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری](#) کو خوش آمدید کہا۔ سٹی کو پائلٹ پروجیکٹ کے فیز 1 کے لیے برامپٹن میں بیٹری پر چلنے والی الیکٹریک بسوں کی جانچ کرنے کے لیے \$11.15 ملین کی خطیر رقم موصول ہوئی۔

### اسپانسرشپ

مارچ 2019 میں برامپٹن سٹی کونسل نے شہر بھر میں اسپانسرشپ کی حکمت عملی اپنانے اور تازہ ترین اسپانسر اور نام رکھنے کے حقوق کی پالیسی (نیمنگ رائیٹ پالیسی) اپنانے کے حصے کے طور پر نام رکھنے کے حقوق کی فروخت کے لیے شہر کی سہولت گاہوں کی ایک مختصر فہرست کی منظوری دی۔ شہر بھر میں اسپانسرشپ اور نام رکھنے کے حقوق کا پروگرام کاروباری اداروں کو کمیونٹی کے ساتھ مربوط کرنے کے مخصوص مواقع فراہم کرتا ہے جس سے رہائشیوں کے لیے خوشگوار تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔

بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کے باوجود، سٹی اپنے ٹیکس دہندگان پر اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ اس کے ساتھ وہ رہائشیوں کے لیے ایک اعلیٰ معیار زندگی بھی فراہم کرتا ہے۔ ستمبر 2020 میں برامپٹن سٹی کونسل نے [سٹی آف برامپٹن اور سیو میکس رینل اسٹیٹ انکارپوریٹڈ](#) کے درمیان \$2,512,500 میں برامپٹن سوکر سینٹر کے بیرونی نام رکھنے کے حقوق کے لیے 15 سالہ معاہدے کی منظوری دی تھی۔

شہر بھر میں اسپانسرشپ کی حکمت عملی اور اسپانسر شپ اور نام رکھنے کے حقوق کی تازہ ترین پالیسی اپنانے کے بعد سے سٹی نے رہائشیوں کو زیادہ سے زیادہ خدمات فراہم کرنے پر کچھ اضافہ شدہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اسپانسرشپ اور نام رکھنے کے حقوق کے معاہدوں کو حتمی شکل دی ہے، جن کی مجموعی آمدنی \$3.7 ملین بنتی ہے۔

### اقتباسات

"کووڈ-19 کی عالمگیر وباء نے نگہداشت صحت، عوامی نقل و حمل اور معاشی بحالی کے خلاء کو پُر کرنے کے لیے حکومت کی تمام سطحوں اور بروقت سرمایہ کاری کے درمیان اشتراک بڑھانے کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے۔ مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ سٹی نے کونسل کی اپنی پوری مدت کے دوران ہمارے رہائشیوں کی وکالت کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے اور میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی شراکت داری پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب مل جل کر ہی برامپٹن کے لیے ایک مستحکم مستقبل کی تعمیر عمل میں لا سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کی جانب سے، ہم کافی مقامی سرمایہ کاری اور شراکت داری کے ذریعے برامپٹن کے رہائشیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے وقف ہیں۔ ہم اپنے وفاقی، صوبائی اور کاروباری شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے متمنی ہیں کیونکہ ہم سب برامپٹن کا ایک سنہرے مستقبل تراشنے میں مل جل کر کام کرتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)